



سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا ایک حصہ زیر تعمیر ہے

برامپٹن، آن (13 جولائی 2022) – سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا ایک حصہ اس پرانے ہوتے تفریحی سنٹر کی دوبارہ بحالی کے مقصد سے تعمیر کی وجہ سے عوام کے لیے بند ہو گا۔ سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کمیونٹی کی بہتر خدمت کے لیے ریکرینیشن سنٹرز کو بحال کرنے کے سٹی آف برامپٹن کے منصوبے کا حصہ ہے۔

تعمیر کا کام سابقہ کرافٹ روم اور اور پہلی منزل پر ملحقہ جگہوں کے کچھ حصوں میں ہو گا۔

اس نئی جگہ پر ڈیزائن کے جدید عوامل شامل ہوں گے، جو اشتراک اور اتحاد کو فروغ دیں گے، جبکہ ساتھ ہی ایک جدید ترین ٹیکنالوجی، مثلاً الیکٹرانک سپورٹس (ای سپورٹس) کی حامل جگہ، پروگراموں کو ریکارڈ کرنے کے کئی مواقع، مثلاً موسیقی، ووکلز، میوزک کمپوزیشن، ڈی جے کے مواقع، کے لیے ایک نیچے کھینچی جانے والی گرین اسکرین اور مزید شامل ہوں گی۔

ایک مرتبہ تعمیر مکمل ہونے پر، سپورٹس پلیکس کمیونٹی یوتھ ہب 14 سے 19 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے تخلیق کرنے، مربوط ہونے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے ایک ہی جگہ پر سب کچھ فراہم کرنے کے لیے 2023 میں کھلے گی۔

یوتھ کلب کی تجدید مکمل ہونے کے بعد، توانائی کی بچت کے نئے اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ عمارت کے صفر اخراج کے ریٹروفٹ کو پورا کرنے کے لیے سپورٹس پلیکس میں ریٹروفٹ والے مزید تعمیری پراجیکٹس کیے جائیں گے۔ برامپٹن کے کئی ریکرینیشن سنٹرز شہر کے گرین ہاؤس گیس (GHG) اخراج کا تقریباً 50 فیصد بنتے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن نے صفر کاربن والے ریٹروفٹ کے لیے سوزن فینل سپورٹس کمپلیکس کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ریکرینیشن سنٹر ہر سال تقریباً 1,100 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے، جو 238 کارز کی جانب سے پیدا ہونے والے GHG اخراج کے برابر ہے۔ سہولت گاہ میں عمارت کی دیکھ بھال کی خدمات کے زیادہ تر آلات بھی اپنی زندگی کے اختتام پر ہیں۔

اس پراجیکٹ کے متعلق Brampton.ca پر مزید جانیں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca